

(المستوى الثاني)

العرب للطلاب

40 فيصد ايم سي كيوز

درجة ثانيه 2025 ء

جامعته المدينه

برلب درياء جهلم

رائيٹر
احمد رضا بن گامران
وليد عطاري

مدرس
محمد فيضان
مدني

جامعۃ المدینہ بریل دیڑا جلم
العربیۃ لاطالیہ

40% مصروفی واثب - محمد علی علی

محمد شامی علی
(مصروفی سوال است) محمد وائل

(1) کھلا وائل کھلا وائل
(الف) کیا آپ وائل وائل (ب) کیا آپ وائل وائل
(ج) کیا آپ وائل وائل (د) کیا آپ وائل وائل

(2) اُجّی جمع ہے
(الف) اُجّی (ب) اُجّی (ج) اُجّی
(د) اُجّی

(3) اُجّی جمع ہے
(الف) اُجّی (ب) اُجّی
(ج) اُجّی (د) اُجّی

(4) اُجّی جمع ہے
(الف) اُجّی (ب) اُجّی
(ج) اُجّی (د) اُجّی

(5) اُجّی جمع ہے
(الف) اُجّی (ب) اُجّی
(ج) اُجّی (د) اُجّی

(6) اُجّی جمع ہے
(الف) اُجّی (ب) اُجّی
(ج) اُجّی (د) اُجّی

(7) ابنُ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) وَلَدٌ (بیٹا) (ب) طفلٌ (بچہ)
(ج) تلمیذ (شاگرد) (د) حَمْدٌ (حدا)

(8) اُمٌّ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) والدۃ (ب) عمۃ
(ج) حَمْدٌ (د) تلمیذۃ

(9) ابْنَةُ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) شقیقۃ (ب) طفلۃ
(ج) الانثیٰ من اولاد (د) والد

(10) اُخٌ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) والد (ب) شقیق
(ج) اُخْتٌ (د) اُخوات

(11) اُخْتٌ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) اُخوة (ب) اُخوان
(ج) اُخوات (د) تلمیذ

(12) عَائِلَةٌ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) زوجۃ (ب) خالۃ
(ج) اُسْرۃ (د) شقۃ

(13) رَبَّةٌ مِّنْ دَلِ وامِرْدَفِ ہے۔

(الف) رَبَّةٌ بَنَاتٍ (ب) ابْنَةُ اُخْتٍ
(ج) غُرْفۃ (د) دَوْرۃ

(14) عَمَّ وَاِمْتَرَدَفَ كَمَا يَبِي.

(الف) اخو الاب (ب) شقيق والد
(ج) عَمَّة (د) ابن اخ

(15) نَشَقَّ وَاِمْتَرَدَفَ يَبِي.

(الف) سنوار (ب) عنزة
(ج) قُرْب (د) عَامَّ

(16) خَالَءٌ وَاِمْتَرَدَفَ يَبِي.

(الف) أَخْنَرَب (ب) شقيقة لوالدة
(ج) أَخْنَبَ الْأَم (د) خَدَّة

(17) خَدَّةٌ وَاِمْتَرَدَفَ كَمَا يَبِي.

(الف) أَبَوُ الْأَم (ب) أَخُو الْأَم
(ج) اب من سدة لؤي (د) خَدَّة

(18) أَثْنَتٌ فَمِي يَبِي.

(الف) جمع مؤنث حاضر (ب) جمع مؤنث واثب
(ج) واحد مؤنث حاضر (د) واحد مؤنث واثب

(19) أَثْنَمَ فَمِي يَبِي.

(الف) ثنية مؤنث حاضر (ب) واحد مؤنث حاضر
(ج) جمع مؤنث حاضر (د) واحد مؤنث

(20) آب يَكُ عَمْرُوتِي يَبِي اسْمُ يَكُ فَمِي يَبِي.

(الف) لعل مؤنث (ب) كم مؤنث
(ج) كم مؤنث (د) لعل مؤنث

(21) مبرور عمر سات سال سے اسکی عمر لپی کہا ہے۔
 (الف) عمر درج سبع سنو (ب) عمر درج سبع سنو
 (ج) عمر درج تسع سنو (د) عمر درج سبع سنو

(22) کھل اُتے مُتَنَزَّح و معنی ہے۔
 (الف) کیا آب شاد ہو (ب) کیا آب غیر شادی شد ہو
 (ج) کیا آب شادی شد ہو (د) کیا آب ملازم ہو

(23) مُتَنَزَّح و معنی ہے۔
 (الف) جمع مؤنث غائبہ (ب) جمع مؤنث حاضر
 (ج) واحد مطلق (د) جمع مطلق

(24) ناظم کو عربی میں کہتے ہیں۔
 (الف) مُوَلِّف (ب) تلمیذ
 (ج) مُسْتَوَل (د) مُوَلِّد

(25) شاعر کو عربی میں کہتے ہیں۔
 (الف) تلمیذ (ب) مدد یقی
 (ج) مُوَلِّف (د) قمر فدا

(26) مرلفہ کو عربی میں کہتے ہیں۔
 (الف) مرلف (ب) مرلفہ
 (ج) طبیب (د) مُدْرِئ

(27) ملازم کو کہتے ہیں۔
 (الف) مُوَلِّف (ب) خدائ
 (ج) خدای (د) مُوَلِّف

(28) اَزْجَعَةُ اَشْنِئِ اس (ا) اُردو ترجمہ ہے۔

(الف) سات اشنئ اس (ب) نو اشنئ اس
(ج) چار اشنئ اس (د) پانچ اشنئ اس

(29) شَخْوَقٌ کى جمع ہے۔

(الف) شخوصان (ب) اشنئ اس
(ج) شخوصون (د) اشنؤقون

(30) طِفْلٌ کى جمع ہے۔

(الف) اَطْفَالٌ (ب) طِفْلُون
(ج) طِفْلَاتٌ (د) طِفْلَان

(31) طِفْلٌ فُغِيْرٌ وَاِلِیْجٌ معنی ہے۔

(الف) خوبصورت بچہ (ب) سب سے چھوٹا بچہ
(ج) چھوٹا بچہ (د) بڑا بچہ

(32) البَنَاتُ الجَمیلُ ہے۔

(الف) مرکبہ افنائیہ (ب) مرکبہ توصیفیہ
(ج) مرکبہ عددیہ (د) مرکبہ فاعلیہ

(33) هَلْ عِنْدَكَ جَوَالٌ وَاُردو ترجمہ ہے۔

(الف) کیا یہ جائزہ موبائل ہے (ب) کیا یہ آفٹا موبائل ہے
(ج) کتنے موبائل ہیں (د) کیا موبائل ہے آپ کے پاس

(34) اَکْبَرٌ وَاِصْغَرٌ ہے۔

(الف) سب سے چھوٹا (ب) سب سے بڑا
(ج) درمیانہ (د) آخری

(35) الطَّالِبُ وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) پڑھنے والا (ب) پڑھانے والا
(ج) ان میں سے کوئی نہیں (د) جی سے پڑا گیا ہو۔

(36) التَّالِمُ وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) دوست (ب) شاگرد
(ج) استاد (د) بھائی

(37) لَيْلٌ مِثْلًا وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) روزانہ (ب) آنے والا کل
(ج) کئی تترہ کل (د) رات

(38) الطَّلَّابُ وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) طالب علم (ب) استاد
(ج) شاگرد (د) فلا فیلو

(39) اَلْمُتَعَلِّمُ وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) اُنتہائی (ب) محالہ
(ج) طالبہ (د) مریف

(40) مُتَسَوِّلٌ وَمَا مَعْنَىٰ بِهِ -

(الف) نکلان (ب) ناظم
(ج) بینک مینجر (د) پیمبر

(41) مَعْلٌ خَفَّتْ خَالِقًا وَمَا أُرْدُو تَرْجَمَ -

(الف) کیا ناظم آیا ہے (ب) کیا طلبہ آئے ہیں
(ج) کیا خالو حافر ہے (د) کیا محالہ حافر ہے

(۶۲) آپ یوں لیں ہوئے اسلیئے عربی ہے۔

(الف) لما خذنا خذت الخ هذه الساعة (ب) لم نأخذت
(ج) فعله يأخذت (د) لما خذنا خذت

(۶۳) اُنْ كُنْتَ لَوْ اُمْسَ مَا اُرْدُوْا رَجْعَہ

(الف) آپ ملے کیوں نہیں آئے (ب) آپ کیسے آؤ گے
(ج) آپ ملے کیا تھے (د) آپ کیسے آؤ گے

(۶۴) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ

(الف) لما خذنا خذت (ب) اُنْ كُنْتَ لَوْ اُمْسَ
(ج) اُنْ كُنْتَ لَوْ اُمْسَ (د) ان میں سے کوئی نہیں

(۶۵) فعل حَقَّقْتُ الدَّرْسَ الخ اُرْدُوْہ

(الف) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ
(ج) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ (د) ان میں سے کوئی نہیں

(۶۶) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ

(الف) مَنْ يَحْكُمُ فَيَقْضِيْهِ اَفْلَحَہ فَرِيْثًا (ب) مَنْ كَتَمَ يَكْتُمُ الدَّرْسَ
(ج) مَنْ يَسْمَعُ الدَّرْسَ (د) ان میں سے کوئی نہیں

(۶۷) مَنْ خَفِيَ الدَّرْسَ كَمَا اُرْدُوْہ

(الف) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ
(ج) اُنْ كُنْتَ لَوْ اَتَّهَجُّ كَمَا اُرْدُوْا رَجْعَہ (د) ان میں سے کوئی نہیں

(۶۸) غَيْرُ ثَقِيْلٍ اَلْقَہ اَمْعٰہ

(الف) ملکہ نکران (ب) فلاں نکران
(ج) کھینچ منجھ (د) نہ نکران

(49) کم امثالک و ما معنی ہے۔
 (الف) آپ نے تنہے بیٹے سے (ب) اسلمی ایک ہیں ہے۔
 (ج) کیا یہ آپ کا بیٹا ہے (د) ان میں سے کوئی نہیں

(50) "أَنَا الْمُحَدِّثُ" یا اردو ترجمہ ہے۔
 (الف) میں جامعہ ٹیچر ہوں (ب) بچہ منجھو
 (ج) طالب علم (د) ان میں سے کوئی نہیں

(51) "میں سب سے پہلے یوں" کی عربی ہے۔
 (الف) أَنَا أَوَّلُ الْقَوْمِ (ب) أَقْبَلُ الْأَخَوَاتِ
 (ج) ان میں سے کوئی نہیں

(52) "مَنْ أَيْ فَضِيحَةٌ تَذَرُكَ" کی اردو ہے۔
 (الف) ہم کو جسے فضیحت سے بڑھو گے (ب) تم کو ان سے فضیحت سے بڑھو گے
 (ج) آج کو جسے فضیحت سے بڑھو گے

(53) أُرِيدُ شَرَقًا مِنْ قَقِيلَاءُ کی اردو ہے۔
 (الف) بلکہ ہم میں فلیٹ، جاہلیہ (ب) میں فلیٹ، دیکھو جاہلیہ
 (ج) ان میں سے کوئی نہیں

(54) "لَتَنَّهُ لَمَرَّةً" سے فلیٹ میں کی عربی ہے۔
 (الف) "لَمَرَّةً" کی عربی (ب) "أُرِيدُ" کی عربی
 (ج) ان میں سے کوئی نہیں

(55) "لَمَرَّةً" کی اردو ہے۔
 (الف) شہر (ب) بستی
 (ج) گاؤں

Date: _____

(56) "الستائون" كىء اردو ہے۔

(الف) بیڈ (ب) سیونہ

(ج) بیدہ

(57) نیک اسلامیت كىء اردو ہے۔

(الف) غیر اسلامی مکتبہ (ب) اسلامی حکومت

(ج) اسلامی محافل

(58) فلیٹ لونسی منتر پیر پى كىء عربی ہے۔

(الف) فى اى ذور الشقة (ب) كم غتر فة فى الشقة

(ج) ان مرس سے كوئى نیر

(59) مزاج كىء اردو ہے۔

(الف) فلاس (ب) جولا

(ج) شمستہ

(60) اٹمبج كىء اردو ہے۔

(الف) موہائل (ب) دووان

(ج) تجارتی مکینر

(61) محلّ توارات كىء اردو ہے۔

(الف) شاہد مال (ب) حیدر لیت (مید لعل ستور)

(ج) چشمہ كىء دووان

(62) مید لعل ستور كىء عربی ہے۔

(الف) مٹبج (ب) حیدر لیت

63) فُلَّ فُحْوَاتِفْ کُی عربی ہے۔

الف (ف) فیکٹری (ک) موبائل دکان
(ج) سٹائل سینٹر

64) کنوارا کُی عربی ہے۔

الف (الف) خُزُون (ک) اُتْرِب
(ج) شرقہ

65) "زبون" کُی اردو ہے۔

الف (الف) فایک (ک) مندر
(ج) سٹائر

66) فُحْلَ اُنْتِ عَاطِلْ عِنِ الْعَمَلِ کُی اردو ہے۔

الف (الف) لیا تم بہ روزگار ہو (ک) لیا تم مندر ہو
(ج) لیا تم سٹائر ہو

67) عَاصِلْ کُی اردو ہے۔

الف (الف) بان بھاٹی (ک) مندر
(ج) فلاس فیلو

68) فُقِیرَی کُی عربی ہے۔

الف (الف) تلخ (ک) فقیر
(ج) ان میں سے کوئی نہیں

69) عَاطِلْ کُی اردو ہے۔

الف (الف) منزل (ک) ان میں سے کوئی نہیں
(ج) کھو

(70) عرب مجلس کی عربی ہے
(الف) عَفَنُو فَنَالُوا
(ب) عَنُفَرَةُ نَوْم
(ج) متنبہ

(71) "خاتونِ اردو" ہے۔
(الف) مالدار
(ب) فقیر
(ج) بیکمیر

(72) "حسنِ جامعہ" فاطمہ علیہ السلام کی عربی ہے
(الف) حسنِ طالبِ دین فی الجامعہ
(ب) حسنِ طالبِ دین فی الحدیث
(ج) ان میں سے کوئی نہیں

(73) "وینتھب" الیٰ الیٰ الجامعۃ را الیٰ افلاک کی اردو ہے۔
(الف) وہ جامعہ میں بٹش پڑھتا ہے (ب) وہ جامعہ میں قادی پڑھتا ہے
(ج) میں قادی پڑھتا ہے۔

(74) "وہ سفتے میں" پانچ دن پڑھتا ہے کی عربی ہے۔
(الف) یُدْرَس خمسۃ اَیَّام فی السبوع
(ب) تفسیر سبعۃ اَیَّام فی الیوم (ج) ان میں سے کوئی نہیں

(75) التسوق کی اردو ہے۔
(الف) خرید و فروخت کرنا
(ب) نقد کی خریدی
(ج) اندسے کی خریدی

(76) 80 دینار کی عربی ہے۔
(الف) سبعۃ کِیال
(ب) ثمانون دینار

Date: _____

(77) شیلبرگ کی عربی ہے۔

(الف) کتابت (ب) متبر

(ج) سبب (د) سبب

(78) "لو جوان لڑکی" کی عربی ہے۔

(الف) الفتاة (ب) البائع

(ج) ان میں سے کوئی نہیں

(79) التمشیرین کی اردو ہے۔

(الف) دوست (ب) وائیک

(ج) خریدار

(80) البائع کی اردو ہے۔

(الف) بیچنے والا (ب) خریدنے والا

(ج) ان میں سے کوئی نہیں

(81) دول کی عربی ہے۔

(الف) حقیقہ (ب) کتابت

(ج) دلو

(82) حقیقہ کی اردو ہے۔

(الف) بیگ (ب) موبائل

(ج) سفر

(83) تلاًخہ کی اردو ہے۔

(الف) فریج (ب) جولا

(ج) اُرن

(84) مرغی، واگوشن، کئی عربی ہے۔
 (الف) لحم الدجاج (ب) لحم بقرة
 (ج) لحم خنزیر

(85) الثوب، الرجالی، الجا، الجھزی، اردو ہے۔
 (الف) نیلہ چٹہ (ب) سورخ فرائ
 (ج) ریڈ میٹ، مردانہ سورت

(86) شِماوۃ راس، وا اردو ترجمہ ہے۔
 (الف) بیڈ فون (ب) بیڈ فون
 (ج) لیب ٹاپ

(87) یقع، کما، بار، وا اردو ترجمہ ہے۔
 (الف) کٹر پٹی (ب) ٹھنڈی پٹی
 (ج) موٹے لیٹرے

(88) ”موٹے لیٹرے“ کئی عربی ہے۔
 (الف) فسادہ (ب) کیماسہ
 (ج) فلا پش، ثقیلہ

(89) ”لیڈین سورت“ کئی عربی ہے۔
 (الف) الثوب، نسائی، القوی (ب) الجوال
 (ج) فلا پش، ثقیلہ

(90) شتر، کئی اردو ہے۔
 (الف) کورٹ (ب) جیکٹ

(۹۱) کیمیاۃ کلمہ اردو ہے۔

(الف) ماسک (ب) ٹی شرٹ
(ج) پاجامہ

(۹۲) فُرشاۃُ الأَشْئَانِ کلمہ اردو ہے۔

(الف) پیسٹ (ب) دانہ برش
(ج) بالوں والا برش

(۹۳) مَضْمُونُ الْأَشْئَانِ کلمہ اردو ہے۔

(الف) Tooth Paste (ب) تیل
(ج) بیڑول

(۹۴) بِنِیَانُ کلمہ عربی ہے۔

(الف) الحذاء (ب) ویشاح
(ج) القميص الداخلي

(۹۵) أَلْمِغْطَفُ کلمہ اردو ہے۔

(الف) کورٹ (ب) بنیان
(ج) ٹی شرٹ

(۹۶) أَلْوِشَاخُ کلمہ اردو ہے۔

(الف) برش (ب) اسواف
(ج) سینڈ

(۹۷) أَلْقَلَشْدَةُ کلمہ اردو ہے۔

(الف) اسلامی ٹوپی (ب) اسواف
(ج) Tooth Paste

(۹۸) اَلْبَنَاطُورُ کئی اردو ہے۔

(الف) بیٹ (ب) سوٹ
(ج) کوٹ

(۹۹) اَنْلَاسَاتُ کئی اردو ہے۔

(الف) بیٹ سی واپیاں (ب) بیٹ سے بیگ
(ج) ان میں سے کوئی نہیں



(۱۰۰) ٹی شہر کچھ عربی ہے۔

(الف) اَلْقَمِيصُ اَلْقَوِيْرُ (ب) اَلْقَمِيصُ اَلزَّاحِلِيُّ
(ج) ان میں سے کوئی نہیں

مظاہر علی بیگ

Waleed